

Translation

Now, a question arises in the mind of every conscious Pakistani: ^{that} Whether our ^{haunted by} ^{future} upcoming generations will also be preyed by the greedy ambitions of political parties involved in conflicts, conspiracies and power struggle or ^{if} these parties, despite political differences, will sit together for the sake of public welfare and present a long-term solution like other developed nations? ^{high time} In my view, it is ~~the time~~ ^{sat} that political parties ~~shall sit~~ together for the betterment of the people.

Comparatively better attempt. Feedback provided.

Translate

اب یہاں ہر شعور رکھنے والے پاکستانی کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی سیاسی کشمکش، سیاسی رسا کشی اور اقتدار کی بوس میں ڈوبی جماعتوں کے اپنے اپنے مفاد کا نشانہ بنتی رہیں گی یا کبھی ہماری تمام سیاسی جماعتیں آپس میں مل بیٹھ کر دوسری ترقی یافتہ جمہوریت پسند قوموں کی طرح سیاسی اختلافات بوتے بوتے بھی عوام کی فلاح و بہبود کی خاطر عوامی مفاد میں مل بیٹھ کر کوئی لائحہ عمل ترتیب دے سکیں گی یا نہیں؟ میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا پڑے گا۔